

پارہ پندرہ

سورۃ البقرۃ

رکوع پندرہ 14 (232 - 235)
Root Words

آیت نمبر	الفار	مادہ Root	معنی	آیت نمبر	الفار	مادہ Root	معنی
232	تَحْمَلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ تَرَائِهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ	ع من ل ن کہ ح رہن و / رہنی ز کے ی	تم روکو اپنی وہ نکاح کریں وہ باہم رہنا سہو جائیں زیادہ پاکیزہ		فِصَالًا تَرَائِهِنَّ تَشَاوُرٍ أَزْوَاجَهُنَّ	فے من ل رہن و / رہنی ش و ر ر و د	دو حصہ حینر انے کا رہنا سہو باہم سٹوری سے تم ارادہ کرو
233	وَالْوَالِدَاتُ يُرْمِينَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ يُنْتِمِ الْحَوْلُودِ كُسُوْتُهُنَّ تَقْلَفُ مُصَآرَ الْوَارِثِ	رہن ع و ل د ح و ل ت م م د ل د کے س و کے ل ف من ر ر ورث	دو حصہ پلڑیں اپنی اولاد کو دو سال پورا کرے حبیباجد ہے / باپ نباسن کا تقلیف دیا جائے نقمان پہنایا جائے وارث	234	يَتَوَضَّوْنَ يَذَرُوْنَ يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَةَ خَيْرٍ تَرْمِثُ خِطْبَةً أَكْثَمُ	و فے ی و ذ ر ر ب م ر ب ع خ ب ر ع ر م خ ط ب کے ن ن	ضرت ہو جائیں وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ انتظار کریں چار خیر رکھنے والا اشارہ کیا تم نے منگنی جھپٹاتے ہو تم
235							

پارہ پختہ ۲
سورۃ البقرۃ
دکوع پختہ ۱۴ (۲۳۵-۲۳۶)
Root Words

آیت پختہ	الفاء	مادہ Root	معنی	آیت پختہ	الفاء	مادہ Root	معنی
سَدَّكَرُوهِنَّ	ذ کے	مذور تم یاد کرو گے ان کو	اَجَلَدُ	ا ج ل	اپنی مدت کو		
تَوَاعِدُوْ	وع د	تم وعدہ کرو	فَاَحْذَرُوْ	ح ذ ر	پس ڈرو		
سِرًّا	س ر د	چھپ کر	حَلِيْمٌ	ح ل م	برابر		
تَحْزِنُوْا	ع ز م	تم غم کرو					
مُقَدَّةٌ	ع ق د	نفاہ کی گھر کا					